

ه نوکس می در

وْ مِنْ مَا مَا مَا مَدْ: 3 بِرِقَائِرَمُودُ عِلَمْ حَامُونُونَا مُرَائِرُ وْ مِنْ مَا مَاعَ هُ سَرَسْرَصَانُمَ: 2020/01 مِرْدُونِّ مَرْسُرُمَانُمَ: GS60(B)2020/08

9/9/2020

رُسِرِوُجْ شَيْرُوُ رو رُسِروُجْ، بِروْرِيْرُدُغُ

سنڌ مشتر 1 ڇوَره ميچ

	مرؤنز برشوش
2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2	ستزيئزة ثر
وَاسَدُمَا وَوَ سَرَامُ: 3 بِرَوْسُرُوهُ عِبْرُ خَرَوْ تُونُومُ (رَدِدُورَ خَنَامِورَبِ)	
بىر قىرىنى سىزىنىرى ئىرى 100/2020/008 (B)/2020/008 مىر قىرىنى سىزىنىرى ئىرى	1.1
بروتوس توبر عُرِيدُ	
ه ولا در	
ر هر در	
وُدُوَرُهُ: 2020 سَارُغُامُ عَارُ 09 مِنْرُ 2020 سَارُغُامُ عَارُ 15 وَسَرَ وَوَرُوْ 14:00 وَ تَامِرِيرُ	8.1
مروسه مراه https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVFY4jxAxj2T9t-WDF-	
b1yb8OqvJYwB44nDLGxD72bVIw7bg/viewform	
وِيرِ جِعَ جِهِ جِهِرِي جَشِرَسُرُ مُرَسُّرِ مُرْسِرِ مُرِيرِ وِيرِ جِعَ جِهِجِ مِنْ يَسْرِسُرُسُرُ مُرْسُرِدِ مُرِيرِدِ	
مُرَيْدُ -	
نگومهرش: -	9.1
د وَرَضَ : قروَسَم: -	
- :±&	
מר מינ מינ בר מי מינים מינים מינים מינים בר מינים מינ	
سرو بره ده ده ده ده راه ده و برود سرس بره فرو درسوس بره در و بود	
وَيُوْرُ وَيُرِيرُ سِورَوْ	0.0
ير الرواز مالاور المالاور الما	9.2
قى ئۇنىڭە ئىزىرى ئايىلىغى ئىزىرى 6520533 ، 9907020	
بر دُر بر و را برا dmin@hanimaadhooschool.edu.mv	
بَدُنْ رَسَرَيَوْ عُرِي عُرِوْرِ عُرُوسِيْر	13.1
ر ۱۵۰۲ ده ۱۰ وسهرموی ورومی	14
چۇنىر ئرىرىكىلىرى ئىلىرى :	
عرش رسرون شاعو شروري برساد سائر	
عُرِيمِرِهُ: 17 سَـُورُغُـيْرُهُ مَرْ 2020 - عُرِيمِرِهُ: 17 سَـُورُغُـيْرُهُ مَرْ	18.1
قروَسُو عَارِّسُو رَوْسُو	
تَدُو: شَسرقُرِيْمُ 11:00	
תם בכבם שפית תלפית ש	20.1

	هُور رُسِرُوْ دُر مُورِدُ عَدِي مِنْ وَمُعَاشِرُ
	مَر مير ^ج : 17 عنده غير شارع شركة المراكز الم
	فروَسُ: هُ مُرْسُورُمِ فُروَسُهِ
	تَ هِ: شَهِرَ مُرْ 11:00
24.1	چۇرىمۇر كۆنى ئىرى ئىرى ئى ئىرى ئى ئىرى ۋۇر 6 كىم دەكىسى دەكىسى دەكىسى دەكىسى دەكىسى دەكىسى دەكىسى دەكىسى دەكىسى
28.1	عِنْ سَامِ رُمِرِعِ فَى تَحْدُونَ رِ رُمَرَهُ وَمُونِي رَ رَمَرَهُ وَمُرَدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُراتِدُ ال
28.2	وي سنوربرج و در در مربر م عرور فر در در وربر على مرور مربر على المرور در در مربر ما در
30.1	وُّرُووُسُ سَمِ وَبِرِجِ وَرَدُورُونِ مِنْ الْمُورِيِّ وَمُورُدُ الْمُورِيِّ مِنْ الْمُورِيِّ
36.1	ر) رود دره ۱۵۰ مرود ۱۵۰ مدده مدده مدده مورد موره بروور مرس حرموس مرسوط مرسور در مرسه فرسه فرسه

سَانَ مَمْدُ 2 - ﴿ وَرُدُ رُدُرُدُ وَيُرْمُونُونَا رُورُونُ وِيرُمَمُونُ

25735 30% (1)

- - 2.1.1 بِرَوْرِجُرِيْنَ نَاشِرُسِنَعَتَ كَالْتَشِرُوْ بَرُشِ بَرِي سَفَعِ نَاجُرُمِ وَرَدِيُّ نَاشِرُوْسِ جَرَب
 - 2.1.2 بُرُهُ بِرَمِرِحِيثِ الْمُشْرِقُ الْرَبْرِيْ الرَيِحَامِ الْمَدْمِ وَدِوَّ الْمُصْرَمِرِحِيْوُمُوْدٍ،
- 2.1.3 كَوْرَمُ عِوْ سُسْمَرِعِ وَ فَالْرَسْرَةِ وَرُسْرُ مَنِي سُقِي مَا مُووَوَمِوْ كَاوَمُوهِ سُسَمِعِ وَمُد
- 2.1.4 مَوِهُوَ وَتُوَهُرُونَ وِهَوَّهِرِهُ قَاتُرَشُوهُ وَرُدُسٌ مَنِي سَفَعِ لَامُودِ وَهِوَّ مَوِهُوَ وَتُوهُرُونُ وَمَرَّعِمَهُمْ
- 2.3 و قَارُ قُرِی رَ هُ اَدُسُرُ مَا تُرَّ وَ مُرْهُونُونَ وَ رَجْرِيْنَ وَ رُرُسُرُ وَ يُرْهُونُونَا مَانَ فَ هُوَ وَ مُرْمُونَا وَ مُرْدُونَا وَ مُرْدُونَا مُرَاسِرُ فَا مُرْدُونَا وَمُرْدُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَمُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَمُونَا وَالْمُونَا وَمُؤْمِدُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونِينَا وَمُؤْمِدُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونِ وَالْمُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونِ وَالْمُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونَا وَالْمُونِا والْمُونِا وَالْمُونِا وَالْمُونِ وَالْمُو
- 3. مولو هرسرسو 3.1. مولوم هر هرسرسوس و ورود کرسرت 1 کیرو، مولو دررو کرمورد کولوشوه هرسوه و 3.1 کرمورد کولوشوه هرسود کولوشوه مولود کرمورد کرمو
- هُوَدُوْدُهُ مِنَ الْمُرْسِرُونِ الْمُورُونِ الْمُورُونِ الْمُرْسِرُونِ الْمِرْسِرُونِ الْمِرْسِرُونِ الْمِرْسِرُونِ الْمُرْسِرُونِ اللَّهُ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرِيْسِرُونِ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرِينِ الْمُرْسِرِينِ الْمُرْسِرِينِ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرُ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرُ الْمُرْسِرُ الْمُرْسِرُ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرُونِ الْمُونِي الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرُونِ الْمُرْسِرُ الْمُرْسِرِي ا
- 3.3.1 .3.3 ئۇرۇق بوچۇ ئەھۇسىۋىش ۋىئىچىدە چىئىقىدىش دۇرۇ ئۇمۇنىش سۆۋە دۇر ئۆرىمىئىرۇ درۇرۇنى ئۇرۇنىڭ ئۇرۇنىڭ دەرۇ بولۇرۇنىش ئەرىشىڭ "ئۇۋىر دى دۇرۇنىش ئۆردۇ دىرىدۇر ۋىدۇرۇ

3.3.2 كَوْمُرُجُ وَ سَسَمِعِ مَنْ مَا مُؤْمِرُهُ مِرْمِهُ وَمُرَّمَ وَمُرَّمَوُهُ مِ مِؤْدَى مِ سَرِدَ مُرَّمَو دُ وَمُرْمَوَدُ سِنْدِ الْمَرْدُودُ وَرُدُورُ مِ وَمِرَةً مَاشَرُ عَامُسُونَا ثُمَّ الْمُومِدِ الْوَرْمِ الْوَ وَمُرْدُونُورُ وَسَرْدُورُ

3.3.4 وَيُرْدِرِ وِيرَوْمِ مُوْنَا وَيَرِي وَيُوْرُونُ وَيُرَوُدُ وَيُرَدُونُ وَيَرَدُونُ وَيَرَدُونُ وَيَرَدُو دُورُدُونُونُ عَنْرِدُونُ وَدُورُ وَيُرَوُنَاسُ عَارُسُونَا الْوَوْمِ بِدُوْ دُجَّ مِرِسُانَ عَوْرُدُو دُرُدُونُونُ وَسُرَدُونُ

3.3.5 سَنَرُمُانَدُ الْمُلَاوِّلِهِ مِنْ الْمُوْلِ الْمُلُولِ الْمُلِوْلِيرِمُولِيدُ الْمُلَوَلِيرِمُولِيدُ الْمُلَوَلِيدُ الْمُلُولِيدُ الْمُلْمُولِيدُ اللّهُ الْمُلْمُولِيدُ الْمُلْمُولِيدُ اللّهُ الْمُلْمُولِيدُ الْمُلْمُولِيدُ اللّهُ الْمُلْمُولِيدُ اللّهُ اللّ

- ٥٠ مَرْسِرَشْ اللهِ ال

(١) ١٥ وُوُدُدُو وِرُسُومُ

7. سِوْشَ بِرْهُ دَرِ 7.1. سِوَدُنْدَ وِرُسْرَهُوْنَدَر رِوْسَرِ مِيرِدَرة وِسَهُ دَرِةٌ وِرُسْرَهُوَنَّهِ، رَوْسَ وَمَرَدُوْ وَسَهُ وَرَدُهُ وَمُسْرَهُونَ وَسَهُ وَمُوْمُونَا وَاللَّهُ مُوسَدُّ وَمُسْرَمُونَا وَاللَّهُ مُوسَدُّ وَاللَّهُ مُوسَدُّ وَاللَّهُ مُوسَدُّ وَاللَّهُ مُوسَدُّ وَاللَّهُ مُوسَدُّ وَاللَّهُ مُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُوسَدُّ مِنْ مُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُوسَدُّ مُوسَدُّ وَاللَّهُ مُوسَالِ مُوسَالِكُولُ وَاللَّهُ مُنْ مُوسُولًا مُوسَالًا مُوسَالًا مُعَالِمُ مُوسَالِهُ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُوسَالًا مُوسَالِهُ مُنْ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُنْ مُوسَالًا مُوسَالًا مُعَالِمُ مُوسَالًا مُوسَالِهُ مُوسَالًا مُعَالِمُ مِنْ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُوسَالًا مُوسَالِهُ مُنْ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُنْ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُعَالًا مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُوسَالِمُ مُعَالِمُ مُوسَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّكُمُ مُوسَالِمُ مُعَلِّكُمُ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِّكُمُ مُوسَالًا مُعَالِمُ مُعَلِّكُمُ مُوسَالِمُ مُعَالِمُ مُوسَالِمُ مُعَلِّمُ مُوسَالِمُ مُعَالِمُ م

7.1.2 ﴿ وَمُرْدُرُ وَمُرْدُرُ وَكُرُهُمْ وَمُورُولُ مِنْدُ عَلَّوْدُ (سَوْمَ عَوْدُر (سَوْمَ عَوْدُر 2

7.1.3 مُرُهُ سُوُوْدُ دُرُسُرُوْ مُدِرِ دُرُبُ وَدُرُبُ وَدُرُمُرُدُ (سَوْرَ سَوَرُدُ

7.1.4 مَ تُرَوَ تُومَرُدُ (حَدُرُ حَوْمَرُدُ (حَدُرُ حَوْمَرُدُ (

7.1.5 مُرْجَعُ مُرْمَعُ مُرْمَعُ مُرْمَعُ مُرْمَعُ مُرْمَعُ مُرَّمُ عَلَيْهِ (حَرَّمُ حَمَّمُ - 5)

7.1.6 رُرُمَة اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ

7.1.7 وُسَرُدُورُ وَدُورُورُ مُ (سُرُ عَمُورُ - 7)

- - ئوترش 8.2. رَسَرَرِّب رِسُفْوَر بِرَيْسِ عَلِي سُوْعَ بِرَ نَهُ وَرَّهُ وَ وَ وَرَثِوَوَّ فَرَوَّ وَ وَرَثُوَوً وَرُوْدُوْمُ سُوْرِيْهُ وَيُمْرُونُهُ مِرْسُ

بريرشوع يراشركان

مرطرش أرعانيك

220 2000 200

- 8.3. كى ئى ئۇسىدىدىكى ئىرىدىكى ئىرىدىكى ئىرى ئىلىغى ئىلىدىكى ئىلىدى ئىلىدىكى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدىكى ئىلىدى ئىلىدىكى ئىلىدىكىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكىكى ئىلىدىكىكى ئىلىدىكىكى ئىلىدىكىكىكى ئى

- 9.3. و ھۇلا ئۇھىدىمۇ كۇرۇقىمى ئىدىكى لارىمۇ د ھۆگە ئەندىمى بۇلىدۇ ئاۋلارۇ ئورۇ ئاۋلارۇ ئورۇ ئاۋلارۇ ئاۋرۇ ئا

(س) سِوْسَ عُرَارُونُونُونُونُورُ

- - 12. چۇۋىدىر ئاشرىش 12.1. و چۇۋىدىر دۇر ئاغرو تۇر ئىشىنىشگىر بۇۋىر غۇيۇرلىشىلىرى. ئانگر تۇرىگ
 - 13. مَدُدُ وَمُرْدُوْهُ 13.1. چَوُوَمُ وَمِ يُحْمَرُهُ مَدُدُ وَمُرَدُوْهُ خَرَمُونَ مُرْمُوهُ حِوْهُ حِدِجُ يَهُمُ مُوَرَدُورٍ وَمُرَدُقَ

- 13.2 ، يَرْدُوهِ يَرَدُ عَرَبِي سَجْعَ يَهِ مَرْدُورِهُ وَمُومَوَّ بُرُو دَرَدُونَوْهِ بِي رَدْهُ عِ رَوَسَرُمِ وَسَرْسَوُ وَ. دَوْرِ بِي رَدِّهُ عِيدُمُ وَرُدُعَ بُرُورُو وَمِاسِرُ رَسْوَفِيرُ الْمُسْرَسِرُ وَسَرَوْعُ
- 14. قَدْمَرُمُ مُورِدُ وَسَوْمَةُ مُرْمِرُورُ وَدُورَهُ وَرَرَدَوَهُ وَرَدَوَ مُورِدُ وَوَسَّمُورُ وَكَالَارِفُ وَوَرَدُو دَوَرُورُورُونَ
- .14.2 وَسَوَدُ مَا مُرَدُورُ وَرَدُورُ وَرَدُورُونِ وَوَسَادُمَا وَدُورُورُ وَمَا مِرْدُورُ وَالْمَوْرُ مَا وَدُورُ وَسُرُوسُورُ وَهِ
- 14.3 وَرِوْدُورُوَرُورُ مُرَرِدُورُ مُرِيدُ وَرَوْ وَسَهُمُامُورُسُرَةَ الْمُوسَوَدُمُ مُورُدُورُورُورُ سِرِيدُونَدُ وَمُرْدُونَ
- 15. مِيْ وَوْدَ وَالْهُ وَلَهُ وَالْمُورَةُ وَالْهُ وَالْمُوَالِّهُ وَالْمُورِ وَلْمُورِ وَالْمُورِ وَلْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُوالْمُورِ وَالْمُوالْمُورُولِ وَالْمُورُولِ وَالْمُوالْمُورُولِ
- 16. ﺳﻮﺍﮐެރާގެ ﻣﺎﻟًﻪ ﻣﻮﺗﺒﯘ ﺗﺮﺗﺮﺗــًّﻪ ﻣﻮﺗﺮﮐـ ﺗﺮﺗﺮﺗــًّﻪ ﺗﺮﺗﺮﺗــًّﻪ ﺗﺮﺗﺮﺗــًــ ﺗﺮﺗــــ ﺗﺮﺗــــ ﺗﺮﺗــــ ﺗﺮﺗــــ ﺗﺮﺗــــ ﺗﺮﺗـــ ﺗﺮﺗــــ ﺗﺮﺗـــ ﺗﺮـــ ﺗﺮﺗـــ ﺗﺮﺗـــ ﺗﺮـــ ﺗﺮـــ
 - مِرْشَرْمُورُدُ (يُورُدُو كَانْرُورُدُ اللَّهُ اللّ
- 16.1.2 تَشَرُوْسِ الرُّهُ سَرَبِ مِنْ الْكَوْمُوعِ مُ مُسَامِعٍ المَوْمُودَ وَمُرَثِّرُهُ وَمَرُّمِهُ مَعِيمَ عَمِيدًا مَوْمُودَ وَمُرَثِّمِ وَمَرُّمِهُ وَمُرَدُّمِ وَمَرُّمِهُ وَمُرَدُّمِ وَمُرَدُّمِ وَمُرَّمِهُ وَمُرَدُّمِ وَمُودُونِهِ وَمُرَدُّمِ وَمُودُ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُرَدُونِهِ وَمُودُ مِنْ مُنْ مِنْ مُعَلِيدًا لِمُعَالِمُ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهُ وَمُودُونِهِ وَمُؤْمِودُ وَمُودُونِهِ وَمُرَدُّمُ وَمُودُونِهِ مِنْ مُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونُونِهِ وَمُودُونُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَالْمُودُونِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَالْمُودُونِ وَمُودُونِهِ وَالْمُودُونِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَمُودُونِهِ وَالْمُودُونِ وَالْمُودُونِ وَالْمُودُونِ وَالْمُودُونِ وَالْمُودُونِ وَالْمُودُونِ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُونِ وَالْمُودُ وَالْمُودُونِ وَالْمُ
 - 6.1.3 مُدرِ دُدرِ وَدُرْوَسُرُمِرِ دُ وِدُرُوسِيْ مُدرِ عُمْدِي
 - 16.1.4 كاكا سَوَهُ إِنْ الْرَرُدُورُورُ وَهُ وَمَرَدُ وَهُ وَمَرْ مِنْ وَهُ مِنْ مِنْ وَمَرْ مِنْ وَهُ وَمَرَدُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُؤْدُ وَمُرْدُورُ وَمُؤْدُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُؤْدُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُ مُنْ مُرْدُورُ وَمُرَادُورُ وَمُؤْدُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُرَادُورُ وَمُورُورُ وَمُرَادُورُ وَمُورُورُ ورُورُورُ وَمُورُورُ ورُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُورُ وَمُورُورُ وَالِمُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَا
 - 16.1.5 وْبِرِرَة مُدْرُورِةً ﴿ وَمَرْ رُرَرَةً لَوَجُودُ الْوَرُورُ (إِنْ فَرُولُو \$)
- 16.1.6 يو.دُه. ي مريده عراست المعارد المعارد المعارد المعارد المراج المر
 - 16.1.7 و يُ سَرِيرُهِ رُرَدُوهُ و يُورُدُوهُ و و و دُورُدُورُ دُرَرُو و يَ سَرِيرُهِ
- 16.2 ﴿ وَمَرْ رُرَدُمُ وَمِرِ وَمِرْ وَ مُرْتَوَقَ مُرْ مِرِ مِرْدُورُ مُرْمِ وِادْ مُرْمَرُ وَ ثَرُ مُرْوَهُ مَرْ مُرْمِدُ وَالْمُرْمُ وَالْمُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرَامِ وَالْمُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرَمُونُ مُرْمُونُ مُرَامِنُ مُرَامِ مُرْمُونُ مُونُونُ مُرْمُونُ مُونُونُ مُرْمُونُ مُونُونُ مُرَامِ مُرْمُونُ مُونُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرَامِ مُرَامُ مُرَمُ مُرْمُونُ مُونُونُ مُرَامِلُونُ مُونُونُ مُرَامُ مُرَامِ مُرَامُ مُرَامُ مُرَامُ مُرَامُ مُرَامِ مُرَامِ مُرامُونُ مُرَامِ مُرَامِ مُرَامِ مُرامُونُ مُرامُونُ مُونُونُ مُرامِعُ مُرامُ مُرامُ مُرامُ مُرامُ مُرامُ مُرامُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُ
- 16.2.1 ﴿ وَسُرُ رَمَرُمُدُ وَسَادُمَاهُمُ وَوَشَرْمِ وَسَادُمَاهُوَ ۖ هَاجُ مِنْهُ وَ مِرْشُرَهُدُ رَمَرٍ خَارُولُو 5 وُمِرَوَ مُامُووَمُورُرُ وْرَدُولُو وَسُؤْرُوا
- 16.2.2 ﴿ وَمَرْ رُمُرَدُو لَرَمْرُهُمْ فَا مِرْدَوِهُ الرَّارِ الْمَدُولُو 4 أَرْمِرَدُ الْمُوَرَّرُ رُمُرَدُولُو وَمَرْدُق
- (ر) ئىرى بېرۇندىرى ئۇغىر ئىرۇك ئىنى دىرۇ ئىرۇندۇ ئىندىرۇ ئىندىدۇ، ھۆۋىكىر ئىرى ئىنى ئىنى ئىنى ئىرى ئۇرۇ ئۇنۇلىكى ئىرى ئىلىرۇ،

- (٦) مُوَمُّوُ كَعْرُسُونَ وِمُرَّعِهُ كَرْسُ صِوْسُ الْرَكَوْرُونَ مُرَكِّمُونَ مُوَمِّدُونَ مُوَمُّونَ مُومُو سُرُوَيُمِ الْدُوَّوَرِهُ مُعَمِّمُ عَلَيْهِ عَبْرُهُ عَرَيْمُسُ وَعَهِ سُرْوَءَ سَطِّعُ وَسُرْعَ وَسُرَةً وَس وَهُوْ تَعْرُوسُرُونَ
- (س) گرمِرُو وَرُوْ عُنَاشِ خَوْشِهُ رِكُوْرُ رُسِرِيَّ سَرِيَّ عُنَاشِ مِ وَمُعَلِّهُ سِمِعِدُدُ شَرُوْمُ عُنَادِنَ سَمِعُ وَمُرْدُ وَرُكُونِهُ وَسَرْدُوْ.
- 16.2.3 كَتْرَوْجُ مُرْدُرُ مِنْ مِرْدُورُ مُرْدُرُدُ كَتْرَوْجُ مُرْدُرُمُ مِرْدُورُ مُرْدُورُ مِرْدُورُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُورُدُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُورُورُ مُرادُورُ مُرادُورُ مُورُورُ مُورُ
- (५) रेड्र में डे रूप रेरे हैं है है कि रहेर हैं है है है है है है पहेंदी पहेंदी है है है है है है है है है है
- (س) وِيْرُوَيُرَسُ الْهُوَرِ وَيُرْفَعُ فَا اللَّهِ وَرِسُونَ الْمُرْدِعُ وَ الْمُرَارِّ سِوعِ الْرَامُولِ الْ عُرِيرِ الْمُرْدِعُ فَا سِبِعِيْ وَالْمُرَارِّ رَوَعُسْ هُرِرِدُ الرَّمِ الْمُرْدُانِ الْرَامُةُ وَيَعْرُهُ وَ سُرُورِ سِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُرْدُورُ الْمُرْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ
- (م) چېرۇنمىرى قىرۇس ئۆۋىرىك ئۆلەندۇ ئىلىمى ئۆلىندۇرۇ ئىلىرى ئۆلۈندىك دائىرۇ. چۇد ئۆلۈندىكى ئۆلەن ئەلۇد ئىرى ئۆلىدى ئىرى ئىلاد ئىلانىدۇرۇ.
 - (٥) مُوَمُوَ وَيُوْمِ وَتَعْرَوُمِوَ عَنْمَاعِ عِوْمُرُمْ مُؤَمِّدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِرُهُ مِنْ مُؤْمِرُهُ وَا
 - 16.3 دُرُهُ عُدُودُ يُرِ كُرِيْ تَدُودُ يُ تَاكِيرُ لَا تَرِيْدُ وَرُدُونُونَ وَرُدُونُونَ وَرُدُونُونَ
- 16.3.1 وَثُورِ وَسُدُ دِمْوَرُدُو مَرْضِرِدُ الْمُحْرِجِينَ الْمُرْتُدُ عَامْتُ الْمُورَمُونِ الْمِرَافِ الْمُحْدُونِ اللهِ الْمُعْرِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا
- (سر) بيرترش ترترترترش
- 17. سوئو ڪُٽري . * 17.1 - سوئو ڪُٽري . * 17.1 - سوئو ڪُٽري . 17.1 - سوئو ۾ سندو تائيو پريماؤ ، حِٽريو جي پُرو ۾ رُڏو سوئو ۾ ڪائور ۾ سائيٽر ڪيٽر ڪيا ۽
 - 17.2 مع دُهُرُدُ كَانْدُى مِ عِنْوَدُهُ سَرَسُومُ وَرُدُ دُسُوسُورُ وُسَرَدُو.
- 17.3 جوج الْمَعْرُونُ مُعَرِّمُونُ وَجَ مَعْرُونُ فِي مَعْرُونُ وَمُرْمَدُ وَتَحْرُونُ مَرَّفِرُ الْمَعْرِدُ وَمَرْدُونَ الْمُونُونِ الْمُعْرِدُونَ الْمُعْرَدُونَ الْمُعْرِدُونَ الْمُعْمِي وَالْمُعُونَ الْمُعْمِي وَالْمُونُ الْمُعْمِي وَالْمُو
- 17.4. دَرُرُرُوعُ صَوْسَرُهُورُ دُسْرَسْرُونُسِ عَسْرُهُ لَالْعَرِو وَرِوَّ سِرِجٍ مُرْمَرُدُدِ مِنْ وَسُرْ سَمِعْ دَرِوَ وَمُرَةً . دُنَا عَرْبُ لَاعْرُو وَمُرْقَ.
- 18. ھۇگر ئرىزىگۇدۇ 18.1 دۇكىدىكۇر ئىزۇكى دۇرۇكۇر ئىزى ئۇلىرىگەر ئىزىدۇر ئىزىدۇرۇ ئىلىرى ئەلىرى ھۇگىر سوھىكىر ئىدىرىكى ئىلىرىمارى ئىدىرىكى ئۇلىرىكى

18.3. مِرْوْمِ وْ رُمْرِ وْمُصْمِرْهُ وْمُرْدُ رُسُولُو مِسْفَى مُورُدُ مَوْرُدُ مَرْدُ مُرْمُ مُسْرَدُهِ،

19. قىدۇرۇق ئۆرىڭ 19.1 چۆكى ئەرگەۋى ئەقغىم ئۆرۈ ئىشىۋە ئا ئۆگى ئەزىگا چۆكىرۇكى ھۆگەكە ئەئەكىلەگەلىدۇ. ئەرگەك چۆكى ھۇگەق دەكۇ ئۇڭىلەنى

Por 84,55 , 1863 2 20 (0)

20. چوش رُدُوْوَ رُرَدُوُ وَ رَدُرُدُو مِ وَسَوْرُ وَرَدُوْ وَرَدُو وَرَدُ رَوَحَ رَدَدِ وَسِ جَوْرُ رَرُدُو وَكُو مُرَوَةُ مُرَوَةً وَمُورُ وَمَ مِوْرُدُ مِوْمُ مُرَدُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُرَدُ وَمُرَدُو وَمُرَدُونُ وَمُومُ مُومُ وَمُومُ مُومُ وَمُومُ و

20.2. دُوْرُدُ رُدُوْرُ رُسُرْسُرِ دُوْرُدُ سَوْعَ كُرِ خَدُرُسُرُمُ وَرُوَ رُدُ مُرْدُكُمُ وَرُو

20.3 ﴿ وَمَرْ رُدُوْوَرُ رُوَعَ رُسُولِهِ وَ مَرْدُو مُرَوَعُ مَا مَا مُنَا لَا لَهُ مَا مُرَا مُرَادِ وَوَرَدُو خَنْهُ وَهِ رُوَدَ مُرْدِسُونَ ﴿ وَوَهُ رُدُوْهُ مُرْسِرٍ عَرِيْسُ مَسْوِ مُرْسُرُ مَرْسُو وَرُورُدُ ﴿ مِوسُرُ سِمِ هَا يَدِوَ سُورُدُ إِلَا مُرْدُدُ وَهُ وَمُرْدُ رُدُوْسُ مُرْسُونِ عَرِيْسُ مَرْسُو وَرُورُدُ مِوسُرُ

21. دُرُرُرُدُ دُوْسُرُو مِعِرُدُ وَمِرْدُوَّ سِوْسُرُوْنَ دِرَادُوْ وَدُسَوَرُدُ دُوْسُرُوَ مِعِرَدُرِ وَوَّ دُوْمُوْدُ وَدُسَوَرُدُ دُوْسُرُوَ مِعِرِدُرِ وَوَّ دُوْمُوْدُ وَدُسَوَرُدُ دُوْسُرُوَ مِعِرَدُرِ وَوَّ دُوْمُوْدُ وَدُسَوَرُدُ دُوْسُرُوَ مِعْرَدُوْ. مِعْرُونُ مِعْرُدُونِ مِعْرُدُونِ مِعْرُدُونِ مِعْرُدُونِ مِعْرُدُونِ وَدُوْسُرُدُونِ مِعْرُدُونِ وَدُوْسُرُونَ مِعْرُدُونِ وَمُعْرَدُونَ وَدُسَوَرُدُونَ وَدُسَوَرُدُونَ وَمُعْرَدُونَ وَدُسَوَرُدُونُ وَدُسَوَرُدُونُ وَمِعْرَدُونَ وَمُعْرَدُونَ وَمُعْرَدُونَ وَمُعْرَدُونَ وَمُعْرِدُونَ وَمُعْرَدُونَ وَدُسَوَرُدُونُ وَمُعْرِدُونَ وَمُعْرَدُونَ وَمُعْرِدُونَ وَمُعْرَدُونَ وَمُعْرِدُونَ وَمُعْرِدُونَ وَمُعْرِدُونَ وَمُعْرِدُونَا وَمُعْرِدُونَ وَمُعْرِدُونَ وَوْسُونَا وَوْسُونَا وَالْمُعُونَا وَالْمُعُونَا وَالْمُعُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَالِدُونَا وَالْمُونَالِونَا وَالْمُونَا وَالْمُعُونَا وَالْمُونَالِدُونَا وَالْمُعُونَا وَالْمُعِلِدُونَا وَالْمُونَالِ وَالْمُونِ وَالْمُونَا وَالْمُونَالِكُونَا وَالْمُونِونَا وَالْمُونَالِقُونَا وَالْمُونَالِينَا وَالْمُونَا وَالْمُونَالِ وَالْمُونَالِينَا وَالْمُونَالِينَا وَالْمُونِ وَالْمُونَالِ وَالْمُونِالِعُونَا وَالْمُونَالِينَا وَالْمُونِالِعُونَا وَالْمُونَالِ وَالْمُونَالِينَا وَالْمُونِالِعُونَا وَالْمُونَالِينَا لِمُعُونَا وَالْمُونِالِعُونَا وَالْمُونَالِينَا وَالْمُونِالِعُونِ وَالْمُونَالِينَا وَالْمُونِينَا وَالْمُونِالِهُ وَالْمُونِالِونَالِينَا لِلْمُونَالِ وَالْمُعُونِا وَالْمُونِالْمُونِالِينَا لِلْمُونِالِعُونَالِينَا لِلْمُعُونِا لَالْمُونِالْمُونِالِعُلِيلِينِي وَالْمُعُونِالِعُونِ وَالْمُونِالِعُونِ وَالْمُونِالِينَا لِلْمُعُلِقُونَا وَالْمُونِي وَالْمُونِالِينَالِي وَالْمُونِالِينَا لِي مُعْمِنَا لِلْمُونِ وَالْمُونِالِينَا ل

ئَادْهُدُدُ 21.2 ﴿ وَقَادُمُو الْوَسِيَّةُ الْمُؤَدِّدِ الْمِوْرِ الْمُؤْدِدُ وَمِرْسَادُ الْمُؤَدِّ الْمُؤَدِّ مِسْهُوُلَائِنْدُ الْمُرْمُونُونِ الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِدُ وَالْمُرْدُّ وَمِرْدُودُ وَمِ

22. ﴿ وَمُرْجَدُ اللَّهِ مِنْ وَمُورُدُ مِنْ وَمُرْجَدُ لَا يَرِيدُ مِنْ مِنْ يَارِدُنَا لَهُ يُرْدُونَا عُورُدُونَا وَمُورُدُونَا وَمُورُونَا وَمُؤْرِدُونَا وَمُورُونَا وَمُؤْرِدُونَا والْمُؤْرُونَا وَمُؤْرِدُونَا وَالْمُؤْرُونَا لِمُؤْرِدُونَا وَالْمُؤَالِقُونَا وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرِدُونَا وَالْمُؤْرِدُونَا وَالْمُؤْرُونَا لِمُؤْرِدُونَا لِلْمُؤْرِدُونَا لِلْمُؤْلِقِينَا وَالْمُؤْرُونِ الْمُؤْرِدُونَا لِلْمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِعُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِينَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِعُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُؤْلِقُونَا لِمُونِ لِل

محور موشركة م

مه فرسر مرکز کو

22.1.1 سِوْدَرُ سَسَمْهُ وَبِرِرَوَوُ وَمُرْمُوهُمَاسُ

عَرْدُونِ وَمِرْتِ 22.12 أَرْدُونُونَ مُرْدُورُورُ دُرُدُو وَوَرُورُ وَرُدُورُو وَكُورُو وَكُورُونُ وَكُورُورُ

عَسَمَةُ مُنْدُمُ 22.1.3 صِوْفَ دَمِرَةً مُرْجِبُومَ مَا مُنْمِ وَمُرَةً صِاءُ مُنْ كَالَمَ مُرْدُمُ (عُرَارُ مُرَامِ وَمَرَبُ

23. ﴿ وَهُوَ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُرْدَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُورَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِرْدُو اللَّهُ اللَّهُ وَمُورُدُو اللَّهُ وَمُورُدُو اللَّهُ وَمُورُدُو اللَّهُ وَمُورُدُو اللَّهُ اللَّهُ وَمُورُدُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُورُدُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ

879

تؤسرة مرثوش

- - 26. هُوَمَّرُ وَمُرَّمَعُ وَمُرَّمَعُ وَمُرَّمَعُ وَمُرَّمَعُ مُرِهِ وَمُرَّمَعُ مُرَّمُ وَمُرَّمَعُ مُرَّمُ وَمُرَّدُهُ وَمُرَّمُ وَمُرَّدُهُ وَمُرَدُهُ وَمُرَدُونَا وَمُرْدُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونِ وَمُؤْمِنَا وَمُونَا وَمُؤْمِنَا وَمُونَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُونَا وَمُؤْمِنَا وَمُونَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُرْدُونَا وَمُرْدُونَا وَمُرْدُونَا وَمُرْدُونَا وَمُونَا وَمُونِ وَمُؤْمِنَا وَمُونِا وَمُونَا وَمُونِ وَمُرَادِهُ وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِ وَمُؤْمِنَا وَمُونِا وَمُونِا وَمُونِا وَمُؤْمِنَا وَمُونِا وَمُونِا وَالْمُونِ وَمُونِا وَمُؤْمِنَا وَمُونِا وَمُؤْمِنا وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَا لِمُ مُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَال

رور، رئاش مرروش

- 27.2 . 27.1 كَرِ هُرُّسُرُسُرُ وَدِوَّ مُوْفَى وَمِيْ دُ وَدُمُوْفَى دِ دُدُهُ الْوَقَى دِ سُرِّ مُرَّدُ وَدُوْفَى دِ دُرُهُ الْوَقَى دُوْدِ مِنْ مُرَدُّ وَدُوْفَى دُوْدِ مُنْ مُؤْفِرَةً وَالْمُوْدِدُونَ مِنْ مُؤْفِرَةً وَدُوْدُ مِنْ مُؤْفِرَةً وَالْمُونِ مُنْ مُؤْفِرَةً وَالْمُؤْفِرَدُونَ مِنْ مُؤْفِرَةً وَالْمُؤْفِرَدُونَ مِنْ مُؤْفِرَةً وَالْمُؤْفِرَدُونَ مِنْ مُؤْفِرَةً وَالْمُؤْفِرَةً وَالْمُؤْفِرَةُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْفِرَادُ وَالْمُؤْفِرَادُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَلِمُونُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُولِقُولُونُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَةُ وَالْمُؤْفِرَادُ وَالْمُؤْفِرَادُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُولُولُولُونُ وَالْمُؤْلِقُ

(ع) رُمُرُدُومُرُخُ رُ سَمِر الْرَمِعِ عُرَادُ

- 28. مِنْ سَامِرِمِ عِلَيْهِ 28.1 هِ وَوَرُ سَوْعَ وَرِ هَارُسُرُ كَاثُرَ رُرِهُ دِوَرُهُ مِنْ سَارِدُمِرِمِ رُدَرُدُونُ وَسَرْمُونَ
- 28.2 وَعُ سَمِيدُ مِرْجِ فَى وَدُمْرَهُمْ لِمَ سِاعَتُرُوعٌ فَرَوَرُسُ وَمِرْفُشُ 30 (مِيرِتُ) فَرَوَرُعُ
- 28.3 هـ يَوْ مَرْدَيْ وَ وَدَوْدِ رَرْدُوَهُ وَرِدُ وَ مَرْدُوهُ وَهِ وَمَرَدُوهُ وَهُوَ وَهُمْ الْمُوهُ وَمِر وَوْرِمُرْدُوْ وَدِدُ وَرَدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُو فَرُوْوْ وَ لَا يَدُورُونُ وَمُورُونُونَ وَيُرْدُو وَرَدُوْ وَرَدُوْ وَرَدُوْ وَرِدُوْ وَرِدُوْ وَرَدُونُ وَيَ
- 28.4 چۇش ئۇرىدىنى ئۇغۇش دىرى دىرى قىرىدى ئوبرۇش ئوبرۇش ئوسۇچ ھەدەنىدى 7 (ركود) قۇقۇرۇ ئۇندۇر چۇش ئوللاق ئۇغۇمۇنىڭ ھا سىرىدىم دۇنغۇمۇنىڭ ئودۇ ئىندۇشۇرۇر
- 28.5 ھۇھ كۆۋۈكۈۋ ھۇھ كىرىم ئۇھۇلى ھۆۋى ۋىدۇلىقى كۆھى ھوقى قۇرۇكى ھۇھ ئالورگەلاركى كۆلۈكىگە ئۇھۇكى ھۇھ ئادىدۇلۇكا دۇھ دۇھۇ دۇلۇكى ھۇش ئالىرىكۇ كالارلىك ئۇلۇھىد كىرىگۇردۇ ھايا ئىلىمى ئىردۇلۇكى ئىكىردۇ.
- 29. مَدْوَهُ وَمَوْ وَ وَمَرْ وَمِرْ وَمُرْدَ وَمِرْ وَمُرَدَوَهُ وَمُوهُوهُ وَوَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا

- مُهُ وَمَّرَ مَنْ -29.2 مُهُ وَمُرَّ مُورِدًا مُرَّمَّ مُورِدًا مُرَّمَّ مُورِدًا مُرَّمَّ مُورِدًا مُرَّمَّ مُ مُهُ وَمُرَّ مُنَا وَمُرَّدًا مُرَادًا مُرَادًا مُرَادًا مُرَادًا مُرَادًا مُرَادًا مُرَادًا مُرَادًا مُرَادًا
- .29.3 دَهُ وَرَبُ وَرِبُ كَوْوَرْدُورِ دُرُورُورُدُ وَسَدُرَاهُ بَوُوْوَقُو 07 (رَحَرُهُ) وَوَرَوَ خُورُورُ وَمَرَدُورِ دُهُ وَمُرْبُ وَرِبُ مُرْدِ دُرُرُدُونِ وَسَرَدُو

- 30. ئۇبرى كۇبىرى كەبىرى ھۆكەر ئەزىرى دەزىم -250,000 ئىرىدى ئۇرى كەبىرى ھۆكى ئەركەردى ھۆكى ئورگە ئامىر ئونىرى ئولىرى ئولى ئولىرى ئولىرى

- 31. وَدُسَوَ وَ وَرُورُ وَ وَرُورُورُ وَ وَرُورُورُ وَ وَرُسَوَ وَرُورُورُ وَرُرَدُورُ وَرُورُ وَرُرَدُورُ وَرُرَدُورُ وَرُرَدُورُ وَرُورُ وَرُرَدُورُ وَرُورُ وَرُورُ وَرُرَدُورُ وَرُرَدُورُ وَرُدُورُ ورُدُورُ وَرُدُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالِ
- 31.2 كَرَدُوَهُوَ وَيُورِدَهُونَ فَاقَدِهُورَ 17.09 كَدِم صَادَّتُرَوَّهُو كَرَدَدِهُ، صِوَوَدَّهُ وَدِ فَاوَدِهُ دِوَّ وَرَدُ تَا مُرْتَا مُرْهُ وَهُورَ مُورَدُ مُرَدَّةً مُرَّهُ وَهُو وَهُ وَهُورُ وَهُو هُورُ وَهُورُ وَمُ دِوْ وَرَدُ وَهُورُ وَمُورَدُ مَا يَدِوْ وَرَدُ مُرَدَّةً مُرَدَّةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

- 31.3 مَرْمُوَهُوَ وَيُورِهُوَهُوَ لَا وَيَرِهُوَ 17.09 مَرِهُ وَهُرِهُوْ لَوَرِهُ لَا وَرَهُ وَالْمُورِةُ لَا وَرَهُ وَالْمُورِةُ لَا وَرَهُ وَالْمُرَادُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرَادُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرُونُ وَالْمُرْدُونُ وَلَا مُرَادُونُ وَالْمُرْدُونُ وَلَالِمُونُ وَالْمُرْدُونُ وَلَالِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُرُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِي وَالْمُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُولِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ
- 31.4 مَرْمُوَهُوْ وَمُورُهُمُو وَقَوْدِوْدُ 17.09 وَمِ صَمَّرُهُوْدُو وَمُرِدُ صَوَّوْدُورُ وَقَوْدُ مِوْدُوَ وَمُرَدُورُ وَمُودُو وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرْدُورُ ورُدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرُدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرُدُورُ وَمُورُورُ ورُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَالْمُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ
- 32.

3 - 22 42

- 33. گىترى ئۇرىر دۇستىرى ئۇرۇرۇر ئورۇرۇر ئۇرۇر دۇرۇر دۇرۇر دۇرۇر ئۇرۇر ئالىرى ئۇرۇر ئالىرى ئۇرۇرۇر ئالىرى ئۇرۇرۇ
- 33.2 "وَسَادُمَا هُو رَوَّوُ وَمَّرُهُ" مَا وَرُ خَسَرُونِ مُرَوَّيٍ * وَسَادُمَا فَهُ كَارُوِرُوَ دُورِ مُرَوَّدٍ مُرْدٍ . وَسَادُمَا فَهُ كَارُورِ وَوَرُ مُرْدٍ . وَسَادُمَا فَهُ كَارُورُورُوْ . وَمِرْدُورُ مُرْدُدُ وَالْمُورُوْ . وَمِرْدُورُ وَالْمُورُوْ .
- 33.3 "وَسَهُمَامُوْ" مَوَرُ فَمَرْ وَرِدُوسِ جِوْرُ سَمِعْ وَبِر حَبَرُمُومُو رِوْوَهُ مَرْوَهُ مَرْوَهُ وَمِر
- 33.4 الاستادي و المراد المرد المرد
- 33.5 الرُرْهَ سَاوْرُ الْمَرْدُورُ وَسَرْدُورُ وَسَرُورُ وَسَرُمَا وَلَا وَمَرْدُورُ وَمِرْدُورُ وَمَرْدُورُ و بَوُرُورُ وَمُرْدُورُ وَسَرُمَاهُ وَيُرْدُونُ وَكَوْرُ وَ وَمَرْدُونُ وَالْمُورُورُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُ
- 34. و هُرِيهُ هُرُدُ اللهُ وَ الْمُدُورُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ
- 34.2 دَدُوَمُدُورُ دَسَرُدُ وَمُرَّدُ وَمُرَّدُ وَمُرَّدُ مُرَدُ وَمُرَّدُ مُرَدُ دُورُ مُرَدُ دُورُ مُرَدُورُ وَسَاعَ مِنْ مُرْوَعُ مَاسِوَ دُرِدُورُ مِرْدُرُورُ مِوْدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مَا مُرَارُورُ مُنْ مُرْدُورُورُ
- 34.3 ج جُهُمَّ مُوَوَّ يَرِهُ مُنَا يَرْتُ عَرَوْنَ يَرْدُ عَنْهُ وَمَرَّدَ اللَّهُ عَالَمُوْ وَمُرْمُوْ وَمُرْمُوْ وَمُرْمُونَ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِهُ وَمُرْمُونَ وَمُرْمُونَ وَمُونِهُ وَمُونِ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِ وَمُونِهُ وَمُونُونِ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِ وَمُونِهُ والْمُونِ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَالْمُونِ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونِهُ وَمُونُونِهُ وَالْمُونِ وَمُونُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ ولِهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ والْم
- رَوْرَنْهُمْ وَمَا مُوْدُو مِنْ الْمَارُونَ وَمَرَدُو مِنْ الْمَارِيْ وَمَارَنَهُو الْمَارُونَ الْمُونِ وَمِرَوَامْر مَارُونَ مِنْ الْمُورِدِ وَمَارَاتُ وَمَارَوَامُ وَمِرْدُونَا وَمُرْدُونَا وَمُرْدُونَا وَمِرْدُونَا وَمِرْدُونَا مِنْ الْمُورِدُونِ الْمُعْرِدُونَا وَمُرْدُونَا
- رَوُّ تُوْفِرُوْ مَرَّ مَنْمِ ثَوْرَرَ وَسَرَدُوْ مَرْ وَسَرَدُوْ مَنْمِ وَمَرْسُونَا مَرَّ وَكَرَمُومُ (فَا فَرَسْرَمُ) بَرَّوْدُوْسِ مَنْمِ وَمَرْسُونَا مَرَّ وَكَرَمُومُ (فَا فَرَسْرَمُ) بَرَّوْدُوْسِ مَنْمِ وَمَرْسُونَا مَرَّ وَكَرَمُومُ وَمَنْ مِنْ فَالْمَا فَالْمُونِ مَنْ مَنْ مِنْ فَالْمَا فَالْمُونُونِ مَنْمَا فَالْمُونُونِ مَنْ مَنْ مِنْ فَالْمُونُونِ مَنْ مَنْ مِنْ فَالْمُونُونُونِ مَنْ مَنْ مَنْ فَالْمُونُونُونِ مَنْ مَنْ مَنْ فَالْمُونُونُونِ مَنْ مَنْ مَنْ فَالْمُونُونُ فَالْمُونُونُونُ مَنْ مَنْ مَنْ فَالْمُونُونُونُ مَنْ مَنْ فَالْمُونُونُ فَالْمُونُونُ مَنْ مَنْ فَالْمُونُونُ فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُونُ فَالْمُونُونُ فَالْمُونُ وَلَالْمُ مِنْ فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُونُ وَلَالْمُ فَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَا فَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ فَالْمُ فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ فَالْمُ فَالْمُؤْلِ فَالْمُؤْلُونُ وَلَالُمُ فَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ فَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ فَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ فَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُ فَالْمُؤْلُونُ وَلَوْلُونُ مِنْ فَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ فَالْمُؤْلُونُ وَلِمُ لَا مُنْ مُنْ مُلْمُ لَالْمُؤْلُونُ وَلَمُ لَالْمُ لَا لَالْمُؤْلِقُونُ فَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ لَا مُؤْلِمُونُ وَلِمُ لَالْمُؤْلُونُ وَلَالِمُ فَالْمُؤْلُونُ وَلَالِمُ لَا لَا لَا لَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ لَا لَا لَا لَالْمُؤْلِمُ لَا لَالْمُؤْلِمُ لَلْمُ لَا لَا لَالْمُؤْلِمُ لَا لَالْمُؤْلِمُ لَا لَا لَالْمُؤْلِمُ لَلْمُ لَا لَا لَالْمُؤْلِمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لَا لَالْمُؤْلِمُ لَلْمُ لَالْمُؤْلِمُ لَا لَالْمُؤْلِمُ لَا لَالْمُؤْلِمُ لَا لَالْمُؤْلِمُ لَا لَالْمُؤْلِمُ لَلْمُؤْلِمُ لَا لَالْمُؤْلِمُ لَلْمُ لَالْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلِمُ لَلْمُؤْلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لَلْمُؤْلُ

- 36.3 مُرْهُ سُوْوْدُورُو وَ وَهُرُو مُرْمُ مِرْمُ الْمُورُوعُ مِوْرُوكُو مُوْمِ دُورُورُو وُورُورُو وُورُورُو مِوْوْرُدُ عِنْدُ تَوْجِ مُرْمُونُ تَوْجٍ حُوْدُرُورُ سُؤْسِ وِنَا عَبْرُ مُرْدُوهُ وَسُرَدُونُ مِرْدُو وَمِرْمُونُ وَمُرْدُ وَمُرْدُو مُرْدُو مُرْدُونُ مُرْمُ الْمُرْدُومُ مِرْمُونُ وَسُرَدُونُ مُورِدُونُ مَنْ مُدُمُ سُودُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُونُ مِرْدُوهُ الْمُرْدُومُ مِرْدُوهُ الْمِرْمُونُ وَمُرْدُونُ
- 37. ﴿ وَمُورِدُ عُرِيهِ مِنْ مُورِدُهُ مُ مُرْمَعُ وَمُورِدُ وَمُورِدُ وَمُرَوْدُ وَمُرَوْدُ وَكُرُورُ وَكُرُورُ وَمُرْدُو
- قَهْ تَوْمَ وَ ثَرْمَ مِ بَرْمِ الْمَدْ وَ وَهُ مَرْهُ وَ مُرَمَّ مِ بَرْمِ الْمَدْ الْمَامِ وَهُ مَ الْمَوْمَ فَسِرُ وَمَ كَامِرُ مَا مُرْمَعُ مِنْ اللَّهُ مَا مُورَّمَ فَرَامُ مِنْ وَهُ فَرَمَّ فَرَامُ مِنْ الْمَرْمُ مَ فَسِرُ وَمِ مُرَامُ اللَّهِ مُرْمَامُ اللَّهِ مُرْمُونُ الْمُرْمُ وَاللَّهُ الْمُرْمُ وَاللَّهُ الْمُرْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ مُرْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- 37.3 كَدُوْكُ كُوْكُوْكُ وَكُوْكُوْ لِيَهْ فِي الْمُوكُورُ وَكُوْكُ وَكُوْكُو وَكُوْكُو لِهُوَكُورُ الْمُوكِدِ الْوَكُورُونُ لِيهِ فِي الْمُوكِدُ وَلِيهُوا كُلُهِ كَالِّمُ كَالْمُ وَلِيوَ كَنْوَوْكُورُ وَالْمُ كَالْمُ عَالَمُ الْمُوكِدُ وَالْمُولُ وَالْمُواكُورُ الْمُؤْكِدُونُ الْمُؤْكِدُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُؤْفِي الْمُؤْكِدُ وَالْمُؤْكُونُ وَالْمُؤْكُونُ وَالْمُؤْكُونُ وَالْمُؤْكُونُ وَالْمُؤْكُونُ وَالْمُؤْكُونُ وَالْمُؤْكُونُ وَالْمُؤُلِّونُ الْمُؤْكِدُونُ وَالْمُؤْكُونُ و
- - CP*0.005*LD = مُرَادِينَا عَالَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ
 - CP (تَسَرُّعُنَاعُ يُرْمَرِبُ): تَسَرُّعُ مُرَاعُةُ فَيْرُو مَرُدُ
 - LD (وَرُحْ وِرُوْرُ حَدِيرً): كَالْرُحْ فَرُمُاعُ وَ وَدُوْرَهَ وَهُوْرُوْ رِدِيْرُوْ وَ وَهُوْرُوَ
- 38.3 وَسَادُمَاهُ الْرَسِوِ وَسَاقُ وَدُوْرَهُوْ وَسَادُمَاهُ الرَّوْدُو وَالْمُوْمُ وَرِسَا وُرِيْ رَدُهُ مِرَوَ وَسَادُمَاهُ الرَّوْدُو وَالْمُوْمُ (الرَدُةُ جِوَالْ وَرِسَا الْرَادُولِينِ وَسَادُمُو الرَّسِوِ وَسَاهِ وَدُوْرَهُرُولُ وَرِسَا جِوْدُهُ وَ مَرْدُرُمُ الْمِرْا وَرُسِا وَرِسَادُوْ.

- 42. مَدْهُ مُوْوَدُ وَ مُدْهُ مُوْوَدُهُ مِوْ مُدُوْمُ وَدُوَرُهُ وَمُرْدُرُ مَا مُرَوَدُ وَمُرَوَدُ وَمُرَوَدُ وَمُرَوَدُ وَمُرْدُورُ مَا مُرْدُورُ وَمُرْدُورُ مَا مُرْدُورُ مَا مُرْدُورُ مَا مُرْدُورُ مَا مُرْدُورُ مَا مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مَا مُرْدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مُ مُورُورُ مِنْ مُورُورُ مُورُونُ مُورُونُ مُورُورُ مُنْ مُورُورُ مُورُونُ مُ مُرْدُورُ مُ مُنْ مُورُونُ م
- 43. دَرُهُ مُصَوْدَرُ 43.1 و دَرُهُ صَوْشَ رِسْرُقِي، دَمِ هَرَّهِ ثُرَّ لَمُعَيْدٍ مِرْفَرِيَّرُوَّ وَالْمُسْرَمِيَّةِ لَا الْمُرْسُرُمَا لِهِ الْمُوْمِدُ مُرَالِي اللهِ اللهُ اللهِ ال
- 44.2 و دَرَهُ مَهُ وَوْدَى رِ شَهُ مَا وَدُهُ وَرِقُوهُ عَبَرُو دَمَا وَدُرُ بَرَدُوْمَ عُرِيَّ مُوَدُّ وَوَدَيَهِ وَرَمَا وَرُدَمَا دِيَ شَرَوْدُ وَرَدُ مِنْ وَوَقِيْ مِنْ وَرَمِيْدُونَ وَوَرِيَّدُونَ وَ سَاعَدِدٍ مَا عَامَرُ وَرُسَاءُ رَبَرُ رَوَدُورُوسُ مِرِيْدُوْمِ رِدُوْدُ

سن میش - 4 خوتونیم ش خوتون - 1 چوت وشری کارش وشرش رشده در میش برش میش برشانی

| | ב א א א א א א א א א א א א א א א א א א א | # |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| | | |
| | تَمَكَّرِيْدُ جِيهِ وَمِدِوْ وَكُرُووَيْدُ مَوْ جِرْدُورُ مَوْ خِرْدُوكُ وَكُوْ مُرْوَفُ مُرْفِيْدُ جِسْتَعْجِرَوْرِ الْمُعَكِّرُونَ | زيئر ژ |
| | سِ وَهُ رُحَدُمَةً كُرُةً (عُرُورُ 2)
سِ وَهُ رُحَدُمَةً كُرُةً (عُرُورُ 2) | 1 |
| | المارر الإعام المراجور الكركور المسامع المرادر والمرادرة والأورة المواقع المرادرة | 2 |
| | الر براز والركام و الركام و ال | 3 |
| | رَرُرُو مُنْ جِي فُ (رَبِطُ سَعَوْمُ / جِ مِنْ بِرِير) | 4 |
| | رْسَرُرُدُ وَيُعْدُونُ وَيُعْدُونِهِ (خَدْوُدُ 3) | 5 |
| | ي مُسْمَع مُرِي شَعْدُ سَنْهُ رِنْهُ مَرْ (ي. رُسُه عِمَدُ مُروسَهُ عِي تَحْدُوم حُسَرُو) | 6 |
| | يَ وَوْ خَدِ سَخْرِدُ دُوْدُ كَ دُرْدُهُ وَرِيْمُ (يُرَوُعِ بِرُو رُبُعُ بِرِمِي) | 7 |
| | 6.1 كَالِرُ وَلَيْرُوْدِيُّ خَدُلُونَدُمُّ وَلِدُهُ رَكِرَوَكُورُ خُرِيدُو لَمُورِدُهُ. | 8 |
| | و المسكور الرام المسكور المرام | 9 |
| | تراري و ويري درو و ويروو در در ورده در ر ورده در در الدور ا | زهر از |
| | چوش رسرمر و درور و و وري و سرمانو و و و و و و و و و و و و و و و و و و | 10 |
| | | 10 |
| | قَرْ رَوْدْ (ﷺ وَمُدُعِ وَمُ وَمُدِعُ وُسِومٍ وَمَ) وَ وَمُدْعَدُ مُو عَدُودُ 4 وَمِرَوَقَدُ رَمَمَدُ وَمِ | |
| دُوْدٍ رُهُ | قَرِ رَوِهِ (١٤٠٤ ءُمَا عُرَامِ اللهِ عُرْدِ وَمَرَاءُ وِمُعَمَدُ مَدِ عَادُوهُ 4 وَمِرَوَتُ وَرَدَهُ وَمِ | 11 |
| ژور ز <i>ه</i> | گر تروفر (عَشَرُهُ عَامِدِج دُمِهِ عَشَدِجُ وَسَهِمِج وَمَ) غَا وِشَرَّهُمُّدُ مَنْرِ جَهُوَوُ 4 وَمِرَوَمَا وَرَامَهُ وَمِهِ
مُرَادُومِدُ وِمِرِيَرِدِةً مِدْسَعَدُ مَادُيْجُودُ جِادِمُ رَبَرَامُةً وَمِ شَوْمِرُو جِهُورُ مَامُسَاقُ عَلَوْدُ مِرْمِيْدُ جِوْدُارُ رَ | 11 |
| د عر رعه
د و حر رعه | گو تروفر (ﷺ ځانده ځانده ها د د د د د د د د د د د د د د د د د | 11
ربٹر ز |
| دُوْمِ رَمْهُ | قر رُورِ (عَارَثُ دَنَاهُم الله عَلَيْ الله وَمَا وَمَا) دَ وِرَهُمَا الله وَمِرَوَاتُ رَرَدُهُ وَمِر
مُرَكُومِنْ وَمِرِ دُرِدِهُ الله الله الله الله الله الله الله ال | رگر فر
رگر فر
رگر نوشرؤ
12 |
| 35 733 | قر رَود (هُرُهُ وَ دُرُهُ وَ دُرُهُ وَ دُرَهُ وَ الْمَارِيْ وَسَاءِ وَمُ) وَ وَرَهُ وَهُ الْمَرْ وَرَوْدُ لَا
مُرَكُومِ لَا وَهِمَ وَرَدُو مِرْدُسُعُورُ مُرْدُونُ وَمُرْدُ وَمِرْدُ عِوْمُ مُرْسِوْ وَهُودُ وَرُومِوْدُ عِلَوْدُ رَرَدُونُ وَمِرْدُ عِوْمُ مُرْسِوْدُ وَرُدُ رَادُونُ وَرَدُ اللّهِ وَرَدِ اللّهِ وَرَدُ اللّهِ وَرَدُ اللّهِ وَرَدُ اللّهِ وَرَدُ اللّهُ وَرَدُ اللّهُ وَرُدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرُدُ اللّهُ وَرُدُ اللّهُ وَرُدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلِللللّهُ وَلِيلًا لَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِيلًا لللللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُومُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْكُومُ وَلِمُ لَاللّهُ وَلِلْكُومُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْكُومُ لَلْمُلّالِمُ للللّهُ وَلِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَ | 11
رگر شر
رکا گرو
12 |
| دُوْدِ رُدُهُ | دُو دُوهِ (هُرُهُ دُهُ مُرْهُ وَهُرُهُ اللّٰهُ وَسَمِع وَرَ) وَ وَرَهُ مُرْهُ الْمِرْدُونَ وَ الْمُرْدُونَ وَر
اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَرِدُو وَ اللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّ
اللّٰذِي اللّٰهُ اللّ | رگر شر
رگزشرؤ
12
13 |
| دور زاده | در درود (سره علی مردود برد مرد هر در | رگر شر
و گوشرؤ
12
13
14 |
| دُوْمِ رَغُرُ | دُو دُوهِ (هُرُهُ دُهُ مُرْهُ وَهُرُهُ اللّٰهُ وَسَمِع وَرَ) وَ وَرَهُ مُرْهُ الْمِرْدُونَ وَ الْمُرْدُونَ وَر
اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَرِدُو وَ اللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّ
اللّٰذِي اللّٰهُ اللّ | رگر شر
و گوشرؤ
12
13
14 |
| 2000 | در درود (هر در درده در دردود و دردود دردود و | 11
2 |

جَ ثِرُوَرُ - 2

39 5472 84°

| | 2071 C
\$2712 S | 20 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | • .1 |
|--|--|---|------------------|
| | | سر سر | 1.1 |
| | | £ 20 C | 1.2 |
| | 29777 LOG
P29A2 SEV | ورد ورده ويد | .2 |
| | | و بدره و در | 2.1 |
| | | 260 m 252 | 2.2 |
| | Å | 123 ASA 3AA | .3 |
| | | 30 5013 | 3.1 |
| | | يي اركب ع | |
| | | 34 928 | |
| | . وروش | في و و رُدُو (عُرسُرمِ | 3.2 |
| | عُورُدُ رِحُ سُرُدِ وُسُرُ | ودروره (عاسرورور | 3.3 |
| | رَدُ مِلْا مُرْثَرُ | 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | .4 |
| ים לינאי ביתרת בנצתם בהפלילה מבתפתשם בהביתה | رمرة وسكور تأثير الإفرة | 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
| رو دُرُو وَ مُرْدُرُ وَ وَسَهُمْ مُرْوَمُ رِدْوَوْمُ وَمِرْوَمُ مُرْدُو مُرْدُرُ | تركر، خيوي فرهرة | 2536 253,00 | 4.1 |
| | | 9 2527336 | |
| والإفروع والمراسم المراور المراور المراور والمرور المارويرو | 2000 2 200 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 | ~535 /E~535 | |
| رُب 3.3 وَرِوْ وَرُوْرُوْرُ وَكُورُوْمُ وَكُورُوْمُ وَكُرْبُارُ وَمِرْوَارُ | بِ وَسَهُمَاهُ وَرُوعًا | כם כם כם בם שניים
במיבק ספומ בי ספימת בי | 4.2 |
| | | 5566 | |
| ים ים ימראם ול שמאים ייבר בים יבי ב
קת כספת צפפעתי מת ממצפת מכקעתכת מעצתו | 30 ټروک روکوش | وجوثر زنزمؤني | |
| د میری در | و و و و و و و و و و و و و و و و و | 26.000 | 4.3 |
| ۵ ۵ ۵ و ۱ ۵ ۵ ۵ و ۱ ۵ ۵ و ۱ و ۱ ۵ و ۱ و ۱ | | | |
| , , | | ر.
مؤثر (ترکراؤ وَتُرْمَ | · ·5 |
| | | | <u>۔</u>
ڪڙبر |
| green gritte | | | سرَيثر |
| 2260- | | | 355 |
| | | | تَوْمِرْزُ |
| | | | 755 |

غ ئۇغۇ – 3 ئىزىڭ ئۇغۇنى ئۇقۇمۇ

| | | - |
|---|---|------|
| | 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | .1 |
| | . ستريش | -1.1 |
| | مريده ير تعرم زيرة دع بر | -1.2 |
| | 1 | -1.3 |
| | . ترم سوع پر سرسرت پر | -1.4 |
| | . عُور برور مردع مرم والاستوسر سرمور فر | -1.5 |
| | | -1.6 |
| | <u> </u> | -1.7 |
| | - 12h 3n5n | -1.8 |
| مُعْرَقُ رِمْسَاوُرُوْمَ وَمُورُوَّعُ، يُحْسَرُم سِوْرُسُرُورُ | | .2 |
| | הַפּ מִנִינים בֹנִנִינָים מִבְּינִים מִבְּמִנִי בְּחִ | |
| 383 | سرُسُرُ | # |
| ع ما در المرابع | | |
| x 2 x x z | | |
| x 2 2 x 2 | | |
| <u> </u> | | |
| | מר במר ב"ל נו מרום נם
קיית בעיק עו ביייני מקנק | .3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4 - 3536 3° 276-976, 2° 26686

| | | | | 2 422 2 1
P 2 9 A 2 | بر کر مرسر مع مولای | 3883 3057 | مه مؤرسر |
|--|------------------|--|--------------------------------|------------------------|--|----------------|----------|
| دُو دُرُدُ مُؤرِدُ هُورُتُ
دِرُورِ بَرُورُدُرِشِ) | | 2 / 2
4 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / | ے مرورہ ہے ہ
فرما فرماریج ک | | رمرع سرسرك تر | 7. c
8. v.s | # |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 128 | | | | | |
| | | | | | 1 2 5 1 2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 1687 EV3 | ونروع |
| ئۇرىشىڭ بۇئۇڭ
(مۇۋىر ئۇيۇنگەرىش) | 3 / 0
0 8 8 9 | ה בני בני
בממת פת ב | ז ב די 0
מקפית המתקק | 3 E
E E E | p. 27 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | المراج والأم | # |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | |

چَهُوَهُ - 5 قَهِهُو 3 (جِنَرُهُ) دَرَثَرُهُ خُنْرُوَدٍ تَنْرُوَدٍوَّ وُنُوثِرُمِ وَسَهُمَاتُوعُهُ

| | | ر وسور مورد و موردو | 22923 2428 4928 8246 | ما وُسْرُ |
|--|--------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| و سادر تا در | 201010 | وُسَادُهُمُ وَمِرِ وَمُرْهُ | وُسَوُرُرُوْوُ مَرْسُرُ | # |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 982 | | | |

6 - 3526 2013, 522 524 5522 8439, 55=

| ئۆرىمىڭ
ئىكىرىم | يُرْسِرُعُ فَرُوْسُرُ وَمُوْدُ مُؤْسِيرُ | برسرج فروشر
قرمه پر |
|--------------------|---|---|
| 85 | رَحَمُو مُشْرَةُ رُبِرُ مُدُدُ / رَحَمُو مُدَّةُ × 85 (مُدُّدُ تُنَاعُ وَمُعَامَدُ وَعُ يُرْمِثُمُ الْمُ | 33 |
| 05 | (((((((((((((((((((((((((((((((((((((| 2 / 0 3
7 N T (9) |
| 05 | ﴿ رُرَدُهِ ۚ وُرَّدُهُ عُنَا مِنْ مُرَدِّ الْمُرْدِ وَمِنْ وَرَّدُهُ عُنَا مِنْ مُرَدِّ مِنْ وَرَّدُهُ عُنَا م
(الْتُرِوَسُرُورِ مِنْ وَرِيْدُ وَمُنْ رُمِرٍ وَرَّدُ فَاعْ مُرَامِرٍ وَرَّدُ فَاعْ مُرَامِرٍ وَمُرْفِعُ عَامَ | 27 0 1 7
7 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 05 | رْسَرُمْءِ وَجِهْرُ / رْسَرُمْءِ دُسْرَةُ وَجِ وَجِهْرُ × 05
وَجِ يُوْجِهُمْ رُسَهُمْءٍ دَسَرَهُمْ دُسِهُمْ مُسْرَوْشُ مَرْسَرَةَ دُدُوْبُ بُوْمِسْمُ هُدُّ
شَرْدُوْسُرْهُوْ. | 25 - 3
2 - 5 - 3 |
| 100 | | 122 |

څر*وو -* 7 چه ستورټري

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

| WHEREAS,[name of Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has |
|---|
| submitted his Bid for the Tender noissued by the Ministry of Education or |
| of Contract] (hereinafter called "the Bid"). |
| KNOW ALL PEOPLE by these presents that We |
| |
| bound unto |
| * for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the |
| Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents. |
| SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of20 |
| THE CONDITIONS of this obligation are: |
| (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the |
| Form of Bid; |
| or |
| (2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity: |
| (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to |
| Bidders, if required; or |
| (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or |
| (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27, |
| * The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders. |
| we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions. |
| This Guarantee will remain in force up to and including the date days after the deadline |
| for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the |
| Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date. |
| Date |
| WITNESS SEAL |
| [signature, name, and address] |

8 - 35,25 يُروُرُرُجُ وَمُرجُ

Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

| To: | |
|-------------------------|--|
| | [name &address of Purchaser] |
| | |
| under | rtaken, in pursuance of Contract No dated to execute |
| Guara | WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank antee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in dance with the Contract; |
| And | WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee; |
| up to
payal
pay y | THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, a total of * |
| | *An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa. |
| We h
dema | ereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the and. |
| to be
Supp | urther agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the lier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any change, addition, or modification. |
| This | Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate. |
| | SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR |
| | Name of Bank |
| | Address |
| | |
| | D-4- |
| | Date |

ئى ئىرۇ ئى - 9 ئى ئائىرىڭ ئۇنىرى ئائىرىمىي

| To: | rm of Bank Guarantee for Advance Payment [name & address of Purchaser] | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | [name of Contract] | | | | |
| Gentler | men: | | | | |
| | ordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, | | | | |
| under | "the Supplier") shall deposit with | | | | |
| [Bank o
as prim
[name o
claim t | or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee many obligator and not as Surety merely, the payment to | | | | |
| be per

way rel | ther agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to formed there under or of any of the Contract documents which may be made between | | | | |
| * | An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of e Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa. | | | | |
| until | uarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract | | | | |
| | ruly, URE AND SEAL: AME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION | | | | |

5 - 24 24

| مرم عرص هم موج
مرم عرص ع | |
|--|-------------|
| | بوؤ تزنارش |
| מרס מים ליבו אינים מים מים
מייתיש מקימיש ציד איני מייתיים מקת | سر سر مد تو |
| י יסים כדל ילב) ידברלי
פיינה מים מית פלת פל בתיח ביינים באור ביינים באור ביינים באור ביינים ביינים ביינים ביינים ביינים ביינים ביינים | |
| سَرَعْر: | 33.1 |
| 0 0 0 0
10 3 10 mg : | |
| י יום יו פיני יוני יוני יוני יוני יוני יוני י | |
| سَرَعْر: | 33.2 |
| 0 0 0 0
14 3 14 14 5 1 | |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 33.3 |
| ٠ ٠٥٠ ٠٠
ومسيور ١٥٠ ٥٠
ومسيور ١٥٠ و ١٠٥ | 33.4 |
| | |
| 20 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - | 37 |

ئۇرىمۇر 6

مرمر کا کستو شر

حِ دُنُوْمِ وَمُوْمُ وَمُو وَمِ وَمِنْ الْحَسَادُوهُ وَمِنْ الْحَسَادُوهُ وَمُوهُ الْحَسَادُوهُ وَمُوهُ الْحَسَادُوهُ وَمُوهُ الْحَسَادُوهُ وَمُوهُ الْحَسَادُوهُ وَمُوهُ الْحَسَادُوهُ وَمُرُوا الْحَسَادُوهُ وَمُرُوا الْحَسَادُوهُ وَمُرُوا الْحَسَادُوهُ وَمُرَّدُوا الْحَسَادُوهُ وَمُرَّدُوا الْحَسَادُوهُ وَمُرَّدُوا الْحَسَادُونُ وَمُرَّدُوا الْحَسَادُونُ وَمُرَّدُوا الْحَسَادُونُ وَمُرَا الْحَسَادُونُ وَمُوا الْحَسَادُ وَمُوا الْحَسَادُ وَمُوا الْحَسَادُ وَمُؤْمِدُ وَمُوا الْحَسَادُ وَمُوا الْحَسَادُ وَالْحَسَادُ وَمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَسَادُ وَمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَسَادُ وَمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَالُولُونُ الْمُعُلِي وَالْمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْحَسَادُ وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعِلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُ والْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعِلِي وَالْمُوا الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعِلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعُلِي وَالْمُوا الْمُعِلِي وَالْم

وْرِدُورْ الْاسَادُورْ الْدُورْ وَسَدُمَاهُ وَلَا وَلَهُ الْالْمُورُ وَلَهُ الْاسَادُمُورُوا) لَا يُرَوَّرُ وَسَدُمَاهُ لَا يُورُّ وَيُرْوَرُ خَارِدُ وَلِهُ وَسَادُمَاهُ لَا لَا وَلَا وَلَامُورُ وَلَا يُرَادُونُ وَلَا وَلَا وَلَا وَيُرْوَرُ وَلَا وَلَادُورُ وَلَا وَلَا مُرَادُهُ وَسَادُمَاهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَادُورُ لَا يُورُورُ لَا ي وِظَا وُدُورُونَارُ خَارُوْ وَلِا وَلَادُهُ لَا لَا وَلَا لِهِ وَلَا مِرْدُورُ لِلْمُ وَلَا لِي لَا لَالْوَلَ

| وَسَهُرْمَا مُوْدُ وَمِرِ وَمُرْمَى: | وَسَهُرُمَتُ بِرُوْدِوٌ وَبُرُمِي |
|--------------------------------------|--|
| نيم مين | نيم المنظم المنظ |
| سترسش | سرکیتر : |
| : 355 | :335 |
| 2 m 5 m 5 | (E) # 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 |

| <u> ژمونگر:</u>
سنته دِر: | <u> ترید:</u>
شهر: |
|---|---|
| | |
| | .,, |
| | |
| سريق: | بتزيع: |
| : 285 | حَرِّيْرِ |
| ,737 | |
| کرمر ع #: | شرمر· ± #: |
| وسندناؤة وبرؤيرهم سؤورج لاير | وَسَادُونُ وَرُونُ وَيُرْوَرُو وَيُرْوَرُو وَيُرْوَرُو وَيُرْوَرُونَ وَيُرْوَرُونَ وَيُرْوَرُونَ وَيُؤْمِرُ |
| نام الم | ستة رد: |
| | |
| شريش | نترش |
| | |
| 232 | : 235 |
| | |
| :# ₂ -بورة | :# <u>*</u> |
| ار کار این از از کار از | # <u>\$</u> -pin |

سنان معکر - 7 ئاترنوگا وَسَادُرَنَّ عَرْدِرِ عَرْدُونَ عَرْدِ مِنْ مَرْدِرِ 3 بِرِوْ بُرْدُونُ عِبْرُ خَرْدُ كَانْرُونَ ذِرُ وَسَادُنَا ثُوْ مَانْرُوْتُ

• مورسر تر و

1. 42,000 6-60

- (١) ئۇندۇرى ئەر دىرىم ئەركىدۇ جىر كولىد مىدى كرى ئۇنۇسىسرد كور سىردى
- (ر) مِوَّمُوْهُ مَرُهُ وَرُوَّ عِبِهُم مِسِ مَرْ وُوَّ عِبْرُهُ وَرُوْهُ مِ فَاعُوْ مِرْسَاتُ \$0.4 مَرُوْهُ وَمِ النَّهُ وَمِسَّةً مُوْمُوْتِ النَّهُ وَرِدُ) مَرُعِيْرُ فَرَرٍ، وُوَسِعِيْرُهُ مُرَدُّنَ عَالَمُ مَرْدُ وَمِنْ مِرْدُ مِنْ مِرَد وَوْمَسَرِقَ ؟ مِسْانِدُ فَرَدُ
 - (سر) هُوْلًا ﴿ وَ مُرْدِرُو (بِرَقَعُرَةُ عُدْوَدُم مُدَّوُمُونًا هُوَرُم لَا عُرْمُو لَا عُرْسُو
 - (١٠) برسائة في الرفتار في يوم الله و برو تركي المرافق المركز المر
 - (٥) رور دور ور مر مر مر مر مرس مرس مردور
- - (٧) چېرځ کروس کرمرې وڅوي د دی سرېر کامرورس کامرسوځ د د میوکرد د مرسرک که در میوکرد کامردس
 - (٨) رِوَّنْ مِرِهِ، وِرَوْفِرْهِ وَوَوْقَ لَا يَرِشْ، وَيَرَّدُ عَرْسِرَ وَكُرْ سُوْلِا مُرْسِرُ

2. وُسَمْرُهُ لِمُرْدُدُهِ سُورُولُمْ مُرْدُولُ لِمُرْجُلُ لِمُرْجُدُ الْمُرْدُولُ لِمُرْدُولُ

- (١) بِدُعُرُهُ وَهُرُ عِبْرُوْسِ وَهُ وَمُورُورُ مُوسِورُ عِبْرُ عَرْدُ وَرُورُ وَرُورٍ عُبِرِي عِبْرَهُ وَسُر
- (٦) وُسَادُمَاهُ لَا لَوْدُوْرُ لِسُورُوْ لِهُوْمُوْرُهِ فِرَكُمُ وَلَا لِكُورُوْدُ اللَّهُ لِللَّهِ وَسَادُمُو
 - (س) وَسَادُونَاهُ وَوَوَيْ سُولُونَ جُسُرُو وَسُودُنَاهُ مَانَاهُ مُرْمِ سُرُوسُرُسْ وَسُادُنَاهُ عُرُوسُو
- (x) وَسَادُمَا مُوَلَّمَ مُرَّةً كَاعِمَا مُرَّدُ وَسَادُمَامُ لَا مُرْوَرُ مَرَّةً وَلَا فَرَوْدٍ سُوْلُورُ مَا مُرَادُمُ سَادُورُ مَا مُرَادُمُ وَسَادُورُ مَا مُرَادُمُ اللّهِ وَمُرْدُمُ مُرَادُمُ اللّهِ وَمُرْدُمُ وَمُرْدُمُ مُرَادُمُ اللّهِ وَمُرْدُمُ وَمُرْدُمُ وَمُرْدُمُ وَمُرْدُمُ مُرَادُمُ اللّهِ وَمُرْدُمُ وَمُوالِدُمُ وَمُرْدُمُ وَمُوالِدُمُ وَمُرْدُمُ وَالْمُوالِقُولُ مُرْدُمُ وَمُوالِدُمُ وَسُولُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَمُوالِدُمُ وَالْمُؤْمُ وَمُوالِدُومُ وَالْمُؤْمُ وَمُولِدُمُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ والْمُولِدُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ والْمُولُومُ والْمُولُومُ والْمُولِمُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ ولِمُولُومُ واللّهُ وال
- (٤) كَنْدُوْ دُوَرُنْدُوْ دُرُوْرُنَادُ مَاسِهُ دُوْ وُسُدُنْدُ وُسُدُنْدُوْ سِرِسُرَّوْدُوْرُوْرُ دُرِوْ دُرُو دُورِيَ وْسَرِيْرُ دُسِرُوْدُ شَوْسُرُسْ، وُسَادُمُوْ تَدُورُ وَجُرَدُوْ عُنْدُيْ مُرْسِرُسْ سُؤْسْ سَرُوْرِ دُرُورُوْ تَدْرُسُ
- (۷) وَسَادُمَاهُ رِسِرِيُ وَسُرَّةً وَيُوْمُونَاءُ رَوْسُ وَسُرَّةً رَمِهُ وَمُ لَا يَعْدُونُونَ وَدُوْمُونُونَ رُمُو وَ دُرَسُورُ وَمَاوُدُ وَ سَاهُ هُمْ وَسِرُونُا وَوَلَمْ رُسُورُهُمْ مُسْوَدُونَ صَرْفَعُ مُنْفُومٌ وَيُومُو وَقُرْ
- (٨) وَسَرُمَاهُ مُودَوَدُ مِرْسُسِ سَوْدَهُم مُرُمَّاهُم مِرُدَّا مُرَسِّعَ مُرَدِّرُ وِرَوَدُ مُسَّرَدُ وَسَرُمَاهُ مُوسِ

(a) وَسَادُمَاهُ سِرِسْدُوْوَرُ مَاسِءَ دَمِ وَمِوَّ وَدُومُهُوْ خُرِيَّهُ (دُرُومُوَّ جِاءَمِرَةً) وَسَادُمَاهُ سِرِسْدُوشُ (a) وَسَادُمَاهُ رِسِرَوْشِرَقْرِمْ وَسَادُمَاهُمَاهُ وَمُرْهُوْ مِرْدُوْشِ مِدْعَهُمْرُرِ سَانَوْدُ خَمَادُمُورُ وِظَاوُرُوْدُ وَعِرْدُوَ عِشْدُ دُوُوشُ

3. بِرُوَّ تُرْعُومُرُدُ

a فَوْعَ مُرْ (مُرْبِ مِدُمُومُ وَرِ)

-- بِرَوْتُرَمْ وَتَرْوَعِ وَيُحْمُونَ عِشْرَة مِرْدُوسٌ 22 تُرْجُ 5 بِسْرِي

ر- بِرُدُيْرُهُ صِرْمُرْ وَيُرْمُرُهُ عِسْرَةُ مِرْدُوسِ 19 تُرْجَ

سر- بِرَوَّ مُرْمُرُونُ أَرْدُو مِرْ 28 أَرْجُ 8 بِرِيْرَامِي

مر- بِرَوْ مُوْهُونُ مِرْدُولِدُ \$ 294 أَرْجُ \$ مِرْمُهِ

٥- دِدِدُهُمْ 4 وَمُرْدُ رِمُعْرُورُو بِدُمْمُرُ

b. اَوْرُدُ ہِ (جِ مَوْرِ مُ اِرْدُ وَدِ)

ر- بِرَوْمُونَ وَمُرْوَعِ وَمُرْفَرَةِ جِسْرَةَ فِرِدُوسَرُ 22 وَقَعْ 5 بِسْرَمِم

الر- برو مرفر مرفر و مرفود ما سرد درد وسر 19 وقع

سر- بِدُمُّ مُهُمُ لَدُّ وَيُرَاثِهُ 28 كُرُّجُ 9 مِسْمِهِ

م- مِرْمُرُونَ فِرِدُومُرُ 313 أَرْجُ

٥- وبروْمُرْمُوع 4 وْمُرْدُمُ رِوْمُرُورُو بِرُوْمُرُورُ

ر- بِرَقَّ مُرْمُ وَتُسْرَوَمِ وَمُنْفُودُ عِسْرَةُ فِرِدُوسٌ 22 أَرْفُ 5 بِسْرَمِ

المراج المراج المراج والمراج والمراج المراج المراج

سر- بِرَقَ مُرْعُرُهُ أَرْدُومِ \$ 28 أَرْجُ 9 بِرِيْرَمِي

مر- بِرَقَ مُرْمُونُ مِرِدُومِ لَمُ 137 أَرْجُ 6 مِرْمِيم

٥- وبروَّمُوم 3 زُمُورُ رِسُورُ رِمُ رُمُورُ بِرُومُ مِرْمُ مُ

09 ئىرۇغۇغىر 2020

=رسرور شرور ما مرور ما مروم 2020